

أجوف مبني للمجهول

Passive Ajwaf verb

سالم فعل سے مبني للمجهول بنانے کا طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سبق میں أجوف افعال مبني للمجهول بنانے کا طریقہ سکھیں گے۔

You have already learnt the formation of مبني للمجهول from Fa'il Saalim. In this lesson we are going to learn about أجوف مبني للمجهول .

یاد رہے ماضی مبني للمجهول کا وزن "فِعْلٌ" اور مضارع مبني للمجهول کا وزن "يُفَعِّلُ" ہے۔

Remember the scale of مبني للمجهول ماضی is "فِعْلٌ" and that of مبني للمجهول مضارع is يُفَعِّلُ.

أجوف ماضی مبني للمجهول:

قَالَ سے مجہول: قَوْلٌ اسقاط حرکت + انتقال حرکت قَوْلٌ مطابقت قِيلَ (کہا گیا)

(Was said) قِيلَcoordinationقَوْلٌ dropping and transferring the vowel sign passive vice قَالَ From أجوف ولوی

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ (بس: 26)

کہا گیا جنت میں داخل ہو جا

It was said, "Enter Paradise."

بَاعَ سے مجہول: بُيْعٌ اسقاط حرکت + انتقال حرکت بُيْعٌ (سودا کیا گیا)

(Transaction was made) بُيْعٌ (Transaction was made) From باع passive vice أجوف يائي

أجوف افعال میں حرف علت (و یا ی) پر کسرۃ ثقیل ہوتا ہے۔ اس لیے ما قبل (فاء کلمہ) کی حرکت ضمّۃ کو گرا کر عین کلمہ کا کسرۃ ما قبل (فاء کلمہ) کو دے دیا۔ اب مطابقت کے قاعدے سے واو کو یاء سے بدل دیا لیکن یائی میں صرف اسقاط حرکت + انتقال حرکت ہو گی۔

In Ajwaf verbs Kasrah is heavy on weak letters (و یا ی). So the Damma on the preceding letter (Fa Kalimah) is dropped and the Kasrah of the weak letter (Ain Kalimah) is transferred to it. Then in accordance with compatibility the واو is changed into ياء. However in Ajwaf Yae only dropping of harkah and transfer of harkah is enough.

خلاصہ: ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجرد میں أجوف کا ماضی مجہول "فیل" کے وزن پر آتا ہے مگر أجوف کے مضارع مجہول میں تعلیل سالم فعل کے قاعدے کے مطابق ہوگی۔

We can say in Mujarrad the ماضی مجہول of Ajwaf occurs on the scale of "فیل". But in مضارع مجہول of Ajwaf the treatment is according to the rules of Fail Saalim (sound verb).

أجوف مضارع مبني للمجهول:

يَقُولُ سے مجہول: يَقُولُ انتقال حرکت يَقُولُ مطابقت يُقَالُ (کہا جاتا ہے)

From يَقُولُ passive vice يَقُولُ transfer vowel signcoordination..... يُقَالُ (is said).

﴿قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالُ: جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ﴾ (زوّاهُ مُسْتَمِرٌّ فِي الْإِمْرَةِ (١٥٢))

اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لئے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے تحقیق! وہ کہا جا چکا

Allah will say: You have told a lie. You fought that you might be called a "brave warrior". And you were called so.

يَبِيعُ سے مجہول: يَبِيعُ انتقال حرکت يَبِيعُ مطابقت يُبَاعُ (سودا کیا جاتا ہے)

From يَبِيعُ passive vice يَبِيعُ transfer vowel signcoordination..... يُبَاعُ (Transaction is mad).